

تَذَكَّرْتُ صَرْعِي الْفَاطِمِيِّنَ بِالطَّفِّ

فَذَابَ فُوَادِي مِنْ أَسَى وَهَمِي طَرْفِي

جہ وقت میں یر کر بلاء ما فاطمہ نافرزندوں فی شہادۃ نے یاد کیدی ،
تو پستوا نا سبب مارو دل پگھلی گیوانے انکھ ٹکوا لاگیگی

وَسَيَّرَ عَلِيٌّ بِالسَّبَابِ مَكْبَلًا

يُرْجُ بِعُنْفٍ إِنْ تَوَقَّفَ لِلضُّعْفِ

علی زین العابدین نو قافلۃ نے چلاوؤ یاد کیدو ، جہ امام خود بندیوان چھے ، اگر ضعف نا
سبب چلتا چلتا رکھی جائے ، تو دشمنوا ہنے سختی سی (بھلا ماری نے) چلاوے چھے .

بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ سَيِّقَتْ حَوَاسِرًا

عَلَى حَاسِرَاتِ الْعَيْسِ مَنْشُورَةَ الْوَصْفِ

رسول اللہ فی شہزادیوں نے کھلے سر چلاوا ما اوی رہیا چھے ، ننگی پیٹھ نا اونٹوں پر
سوار چھے ، بال کھلا ہوا چھے .

بِعَيْنِكَ مَسْرَهُنَّ فِي وَسْطِ الْعِدَى

مُرْوَعَةً ، يَا رَبِّ ، فِي حَسَدِ الزَّحْفِ

اے رب تاري انکھوناسيا منے رسول الله ناشهزاديونے چلاوا ما اوي رهيا چھے ،
يہ سگلا ظلم سي لرنہے چھے ، انے چوگرد دشمنونا ٹولاؤ چھے

مَرْيَّةَ أَهْلِ الْبَيْتِ قَدْ جَلَّ خَطْبُهَا

فَاعْذِرْ مَنْ قَدَّمَتْ فِيهِ مِنَ اللَّهْفِ

اهل بيت ني مصيبتہ نوجو کم گھنو مھو ٹو چھے ، اگر کوئي شخص يہ غم انے افسوس ما
گذري جائے تو يہ گھنو کم چھے .

شَوَى كَيْدِ التَّقْوَى وَذَلَّلَ أَهْلَهُ

وَسَامَ كِتَابًا مُنْزَلًا خَطَّةَ الْخَسْفِ

تقوى نو كليجہ بھوني ديدو چھے ، تقوى نالو گونے دليل کيدا چھے ،
انے قرآن مجيد ني بے حرمتي کيدي چھے .

وَجَلَّلَ قَبْرَ الْمُصْطَفَى ثَوْبَ شَجْوَةٍ

وَعَادَسَ دِينَ اللَّهِ مِنْهُتِكَ السَّجْفِ

رسول الله ني قبر پر غم انے اندوہ ني چادر اوٹھاوي ديدي چھے .
انے خدا نادين نو پردہ چاک کري ديدو چھے .

وَقُوفُ بَنِي الزَّهْرَاءِ مَكْتُوفَةٌ لَدَىٰ اِبْرَاهِيمَ

مِنْ اِكْلَةِ الْاَكْبَادِ ضَارِبَةً الدَّفِّ

فاطمہ الزہراء نافرزندو نابندیوان تھی نے کھڑا رہوایہ۔ کلیجہ فی کھاناری انے دف نی وجاؤناری
ناچھوکرا (یزید) ناسامنے۔

یزید نے فی ماں - "ہندیدر اُحدنی جنگ ماجزہ ۲۴ نو کلیجہ چاک کری نے
منہ مامو کوہتو، انے دف بجاوی نے دشمنو نے جوش مالاؤتی ہتی ،

وَاحْرَقْنِي ذِكْرِي لِرَوْعَةِ فَاطِمَةَ

وَقَدْ دُهَشْتُ مِنْ فَارِسٍ نَازِعِ الشَّنْفِ

فاطمہ الصغری ناکپارانی یاد مارادل نے جلاوی دے چھے ،
جبروت گھوڑے سوار اپ نی والیو کھینچو ایوانے اہناسبب اپ خوفزدہ چھے۔

وَعَمَّتْهَا مَكْشُوفَةٌ خَرَجَتْ لَهَا

مَوْلَاهُةً كَالظُّبِيِّ مَسْبُوعَةَ الْخِشْفِ

انے یرفاطمہ نا پھٹیجی صاحبہ اواقعتہ ناسبب ننگے سردوٹری آیا ،
اپ ہر نی مثل بے چین چھے کہ جبر ہر نی نا بچنا پاپھل کوئی درندہ ہوئی۔

وَمَصْرَعُ مَوْلَايَ الْحُسَيْنِ عَلَى الثَّرَى

وَمَرْفَسَةُ شِمْرِ صَدْرِهِ الطُّهْرُ بِالْخُفِّ

انے وہ وقت یاد ارے چھے کہ جبروت حسین زمین پر گرا ہوا چھے ، شمر لعین اپ ناسیندرا طہر
پر ٹھوکر مارے چھے ، انے پگ ماموزہ پہنا ہوا چھے۔

لَهَا ارْتَعَدْتُ فِي الْقَبْرِ جُثَّةُ أَحْمَدِ

وَأَمْرُكَانُ بَيْتِ اللَّهِ دَائِمَةُ الرَّجْفِ

اواقعتے ناسب قبر ما رسول اللہ نا جثتے مبارکتے لرزے رہیا ہے
انے بیت اللہ نا ارکان ما ہمیشتے زلزلتے ہے ،

وَفِتْيَانُ صِدْقٍ مِنْ فَوَارِسِ هَاشِمِ

قَدْ اسْتَبَقُوا دُونَ الْحُسَيْنِ إِلَى الْكُتْفِ

انے یاد اوے ہے کہ - صدق نا نوجوانو ، ہاشمی گھوڑے سوارو ،
حسین پر فداء تھاوا ما مسابقتے کری رہیا ہے ۔

فَكَمْ مِنْ أَبِي اللَّهِ ، فَارَقَ نَجْلَهُ

هُنَاكَ ، وَكَمْ الْفِ تَوَدَّعَ مِنْ الْفِ

کتنا باوا ہے - کہ جد فرزند نے فراق کری نے گیا ،
انے کتنا دوست ہے - جد دوست سی وداع قہیا ۔

ضَغَائِنُ كُفْرِي فِي صُدُورِ أُمَّيَّةِ

شَفَّتْ نَفْسَهَا عَنْ ذَلِكَ الدَّاءِ بِالطَّفِّ

بنی امیہ نا سینتے ما کفر نا کینڈو ہتا ۔
کر بلاء ما ظلم کری نے یر کینڈو نے ٹھنڈا کیدا ۔

أَرَادَتْ بِطَفِّ قَطْعِ نَسْلِ مُحَمَّدٍ
فَأَخْسَاهَا الرَّحْمَانُ مَغْلُوبَةً الْكُفِّ

بني امية يدراراد كيدو كد كر بلاء ما محمد المصطفى في نسل في قطع كري ناكهي ،
ليكن رحمن يدر يسكلا ناهاقون باندهي ديدا ، (نااميد كري ديدا) .

أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ
وَإِنْ جَهَدَتْ أَشْيَاعُ كُفْرًا لَنْ تُطْفِئِي

مگر خدا ايم چاهي چي كد پوتانا نور في تمام كري ،
اگرچه كافرين في جماعتواهنه بجاوا في كوشش كري چي .

فَتِلْكَ شُمُوسُ الْغَرْبِ غَشَّتْ جُفُونَهَا
بِمُسْخِنَةِ الْعَيْنَيْنِ مُرْغَمَةِ الْأَنْفِ

ال محمد يدر سگلا مغرب ناسورج چي ، كد جدر يدر سگلا في انكه اندهي كري ديدي ، يدر سگلا في
انكھوسي پاني گروا لاگي گيو ، سگلا ذليل قهيا ، (كيم كد يدر سگلا خدا نا نور في بجاوي ندر سگا) .